

NOTICE OF DISTRIBUTION OF PROFIT, TRANSFER BOOK CLOSURE AND TWENTY FIRST ANNUAL REVIEW MEETING

At the meeting held on September 26, 2020, the Board of Directors of the ORIX Services Pakistan (Private) Limited was pleased to announce a net profit for ORIXM of PKR 127.458 million for the year ended June 30, 2020. The Board also approved a cash dividend @ 25% (PKR 2.50 per certificate of PKR 10/ each) for the year ended June 30, 2020 after transferring a sum of PKR 6.373 million to statutory reserve.

Twenty first Annual Review Meeting (ARM) of certificate-holders of ORIXM will be held on Tuesday, October 27, 2020 at 02:15p.m. at ORIX leasing Pakistan Limited Head office i.e. Plot no. 16, Sector 24, Korangi Industrial Area, Karachi, to review the performance of the Modaraba for the year ended June 30, 2020.

For the purpose of ascertaining entitlement of the aforementioned dividend and to attend Annual Review Meeting, the certificate transfer books will remain closed from Tuesday, October 20, 2020 to Tuesday, October 27, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, **FAMCO Associates (Pvt.) Ltd. 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi**, before the close of business hours on Monday, October 19, 2020 will be treated as in time for the purpose of entitlement to dividend and to attend Annual Review Meeting respectively. Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Modaraba as at 19 October 2020 will be entitled to attend the ARM and be entitled to receive above stated cash dividends.

In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his identity by showing his original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the Meeting.

In terms of Section 223 (7) of the Companies Act 2017, the Annual Report for the year ended 2020 will also be placed on the Modaraba's website simultaneously with the dispatch of the same to the members.

E-Dividend Requirements: In accordance with the Companies (Distribution of Dividend) Regulation 2019, certificate holders are advised to provide their Identification Number/ Computerized National Identity Card (CNIC) Number and International Bank Account Number (IBAN) details, if they have not already done so, to our Share Registrar (if certificates are held in physical form) at their above referred office address or to the respective Participants/ Broker (if certificates are held through CDS Account) latest by 19 October 2020. Failing which may result in withholding of dividend payments of respective certificate holders.

The Certificate holders are hereby informed that in accordance with Section 244 of the amended Companies Act, 2017 where a dividend has been declared by a Modaraba but has not been paid or claimed, within a time period specified under section 242, to any certificate holder entitled to the payment of the dividend, the Modaraba shall, within fifteen days from the date of expiry of the said period, transfer the total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed to a separate profit bearing account to be called the unpaid dividend account opened by the Modaraba for this purpose in any scheduled bank. The deposits in the unpaid dividend account shall only be used for payment to a claimant as given in sub-section 4. Certificate holders who have not yet collected/ received their dividends/certificate are advised to contact our Share registrar for details.

Tax Requirements: The dividend income on certificates is liable to deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 and pursuant to the provisions of Finance Act, 2020, the 'Filer' and 'Non-Filer' certificate holders will pay tax on dividend income @ 25% and 50% respectively. The Filer status of certificate holders will only be determined on the basis of latest available Active Taxpayers List (ATL) uploaded by the Federal Board of Revenue (FBR) on their website <http://www.fbr.gov.pk/>.

In case a Folio / CDS Account is jointly held, each joint-holder will be treated separately as Filer or Non-Filer and tax will be deducted on the gross dividend amount determined by bifurcating the certificate holding of each joint-holder on equal proportions, except where certificate holding proportion of joint-holders is pre-defined as per the records of Modaraba's Certificate Registrar and thus tax rates will be applied in line with respective proportions. Those certificate holders, who are holding certificates jointly, are requested to update/ notify the certificate holding proportions of Principal and Joint-holder(s) in writing to our certificate Registrar latest by 19 October 2020 at their above referred office address.

In this regard, all certificate holders, whose names are not entered into the ATL despite the fact that they are filers, are advised to make sure that: (i) their names appear into the ATL before start of closed period (referred above), otherwise they will be treated as non-filers for tax deduction purpose, and (ii) a copy of their National Tax Number is submitted to their relevant Participant / CDC Investor Account Services or to our Share Registrar (in case of physical certificate holding only) at their above referred office address.

Corporate certificate holders are requested to provide of a copy of valid Income Tax Exemption Certificate issued by the concerned authority to your institution which is compulsorily required to claim tax exemption in terms of clarification issued by FBR vide their letter C.No.1 (43) DG (WHT)/ 2008-Vol.11-66417-R dated 12 May 2015 (viewable at FBR's website at following link: <http://www.fbr.gov.pk/ShowDocument.aspx?type=Doc&Actionid=4141>). In case you are subject to any special tax rate, please also provide a copy of relevant certificate issued by the concerned authority. Relevant copies should reach our Share Registrar at their above mentioned office address.

On behalf of the Board

MUHAMMAD SIDDIQUE
Company Secretary

اورکس مضاربہ (ORIXM)

نوٹس برائے تقسیم منافع، حصص منتقلی کی کتابوں کی بندش اور 21 ویں سالانہ جائزہ اجلاس

اورکس سروسز پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس مورخہ 26 ستمبر 2020 میں سال 30 جون 2020 کیلئے بخشی ORIXM کے لئے 127.458 ملین روپے کے خالص منافع کا اعلان کیا تھا۔ بورڈ نے 6.373 ملین روپے آئینی ذخائر میں منتقلی کے بعد بعد مختتمہ سال 30 جون 2020 کیلئے 25 فیصد (10/- روپے کے سر ٹیکسٹ پر 2.50 روپے) کے حساب سے نقد منافع منقسمہ منظور کر لیا ہے۔

21 ویں سالانہ جائزہ اجلاس (ARM) مورخہ 27 اکتوبر 2020 کو 02:15 بجے ORIX کے سر ٹیکسٹ ہولڈرز کا اجلاس اورکس لیزنگ پاکستان لمیٹڈ کے ہیڈ آفس واقع پلاٹ نمبر 16، سیکٹر 24، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی پر منعقد ہوگا جس میں سال مختتمہ 30 جون 2020 کے دوران مضاربہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائیگا۔

مندرجہ بالا منافع منقسمہ کی اہلیت کے مقاصد کی تشخیص اور سالانہ اجلاس عام میں حاضری کے لئے سر ٹیکسٹ منتقلی کی کتابیں منگل 20 اکتوبر 2020 سے منگل 27 اکتوبر 2020 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ ہمارے رجسٹرار، FAMCO ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، ملحق ہوٹل فاران، بلاک 6، P.E.C.H.S، شاہراہ فیصل، کراچی کوکٹا میں بند ہونے سے قبل پیر 19 اکتوبر 2020 تک موصول ہونے والی منتقلیوں کو منافع منقسمہ کے استحقاق اور سالانہ جائزہ اجلاس میں حاضری کے لئے بروقت تصور کیا جائے گا۔ صرف وہ افراد جن کے نام مضاربہ کے ممبران کے رجسٹر میں 19 اکتوبر 2020 کو موجود ہونگے انہیں ARM میں شرکت کرنے اور مذکورہ بالا نقد منافع منقسمہ کی وصولی کے لئے اہل تصور کیا جائے گا۔

انفرادی صورت میں کھاتے دار یا ذیلی کھاتے دار اور/یا وہ افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ کی صورت میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ریگولیشنز کے تحت اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، وہ اپنی شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ اجلاس میں حاضری کے وقت دکھائیں گے۔ کارپوریٹ انٹیٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختیار نامہ بمع نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کئے جائیں گے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (7) 223 کے تحت سال مختتمہ 30 جون 2020 کی رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یہ ممبران کو بھیجی بھی جائے گی۔

ای ڈیوڈنٹ کے تقاضے: کمپنیز (ڈسٹریبیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشن 2019 کے تحت سر ٹیکسٹ ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنا شناختی نمبر/کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر اور انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی تفصیلات، اگر انہوں نے پہلے فراہم نہ کی ہوں تو ہمارے شیئر رجسٹرار (اگر سر ٹیکسٹ طبعی شکل میں ہوں) کو ان کے مندرجہ بالا دفتری پتے یا متعلقہ شرکاء/بروکر (اگر سر ٹیکسٹ CDS اکاؤنٹ میں ہوں) 19 اکتوبر 2020 تک فراہم کر دیں۔ بصورت دیگر فراہم نہ کرنے کی صورت میں ایسے سر ٹیکسٹ ہولڈرز کو منافع منقسمہ کی ادائیگی روک دی جائے گی۔

سر ٹیکسٹ ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے تحت جس ڈیویڈنڈ کا مضاربہ نے اعلان کیا ہے لیکن وہ ترمیم شدہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 242 کے تحت طے کردہ مدت کے اندر کسی اہل سر ٹیکسٹ ہولڈر کو اب تک غیر ادا شدہ یا غیر دعویٰ شدہ رہا ہو تو پھر مضاربہ مذکورہ مدت کے خاتمے کے 15 دن کے اندر منافع منقسمہ کی کل رقم جو غیر ادا شدہ یا غیر دعویٰ شدہ رہی ہو غیر ادا شدہ منافع منقسمہ ایک علیحدہ منافع بخش اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا جائے گا جسے مضاربہ نے انہی مقاصد کے لئے ایک شیڈولڈ بینک میں کھولا ہے۔ منافع منقسمہ کے غیر ادا شدہ اکاؤنٹ میں ڈپازٹس کو صرف دعویدار کو ادائیگی کے لئے ذیلی دفعہ 4 کے تحت استعمال کیا جائے گا۔ سر ٹیکسٹ ہولڈر جنہوں نے اب تک اپنے منافع منقسمہ/سر ٹیکسٹ وصول/موصول نہیں کئے ہیں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ معلومات کے لئے ہمارے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

ٹیکس کی ضروریات: سر ٹیکسٹ پر منافع منقسمہ کی آمدنی پر آئٹم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس کی کوئی ہوتی ہے اور فنانس ایکٹ 2020 کی شقوں کے تحت 'فالور' اور 'نان فالور' سر ٹیکسٹ ہولڈرز کو منافع منقسمہ کی آمدنی پر بالترتیب 25 فیصد اور 50 فیصد ادائیگی کرنی ہوگی۔ سر ٹیکسٹ ہولڈرز کے فالور کی نوعیت کا تعین فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی ویب سائٹ <http://www.fbr.gov.pk/> پر موجود فعال ٹیکس دہندگان کی کی حالیہ دستیاب فہرست (ATL) سے کیا جائے گا۔

اگر کوئی فوئو/ICDS اکاؤنٹ مشترکہ ہے تو ہر مشترکہ کھاتے دار کو علیحدہ علیحدہ فالور یا نان فالور تصور کیا جائے گا اور ٹیکس مجموعی منافع منقسمہ کی رقم پر ہر سر ٹیکسٹ ہولڈر کے علیحدہ سر ٹیکسٹ ہولڈنگ کے مساوی حصہ پر تعین کیا جائے گا سوائے اس کے جہاں مشترکہ کھاتے داروں کے سر ٹیکسٹ ہولڈنگ کا تناسب مضاربہ کے ریکارڈ کے مطابق پہلے سے واضح شدہ ہو اور لہذا ٹیکس نرخ متعلقہ تناسب سے لاگو ہونگے۔ لہذا جن سر ٹیکسٹ ہولڈرز کے سر ٹیکسٹ مشترکہ ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے پرنسپل اور مشترکہ کھاتے داروں کی سر ٹیکسٹ ہولڈنگ کا تناسب تحریری طور پر 19 اکتوبر 2020 تک سر ٹیکسٹ رجسٹرار کے مندرجہ بالا پتے پر بھیج دیں۔

اس سلسلے میں تمام سر ٹیکسٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ فالور ہونے کے باوجود اگر ان کے نام ATL میں موجود نہیں ہیں تو ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل کو یقینی بنائیں: (i) یہ کہ ان کا نام (مذکورہ بالا) بندش کی مدت سے پہلے ATL میں موجود ہو، بصورت دیگر انہیں ٹیکس کوئی مقاصد کے لئے نان فالور تصور کیا جائے اور (ii) اپنے قومی ٹیکس نمبر کی نقل متعلقہ شریک/CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروسز یا ہمارے شیئر رجسٹرار (صرف طبعی سر ٹیکسٹ کی صورت میں) مندرجہ بالا دفتری پتے پر فراہم کر دیں۔

ادارتی سر ٹیکسٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے ادارے کو جاری کردہ درست آئٹم ٹیکس استثنائی سر ٹیکسٹ کی نقل فراہم کر دیں جو کہ FBR کے جاری کردہ خط C.No.1 (43) DG (WHT)/ 2008-Vol.11-66417-R سے ڈاؤن کیا جاسکتا ہے۔ مورخہ 12 مئی 2015 میں دی گئی وضاحت کے تحت لازمی ہے، اس خط کو لنک (<http://www.fbr.gov.pk/ShowDocument.aspx?type=Doc&Actionid=4141>) سے ڈاؤن کیا جاسکتا ہے۔

منجانب

محمد صدیق

کمپنی سیکریٹری

05 اکتوبر 2020